

محترم اہل خانہ

طالب علم کی حفاظت اور رازداری کے تحفظ میں مدد کے لئے آن لائن ہم وقت آموزشی سیشنز میں شرکت کے لئے درج ذیل پیرامیٹرز اور استعمال کے لئے توقعات کا مشاہدہ آن لائن آموزش کے تمام پہلوؤں اور تدریس کے تمام ماڈلز (اڈاپٹیو اور ورجونل اسکول) میں تمام طلبہ اور اہل خانہ کو کرنا ضروری ہے۔ اساتذہ اس سے قبل ہر طالب علم کے ہوم روم یا پیریڈ ون کلاس میں توقعات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، تو براہ کرم اپنے اسکول پرنسپل سے رابطہ کریں۔

استعمال اور برتاؤ کے لئے توقعات

"رینل ٹائم" ہم وقت تعلیم اور آموزش میں حصہ لینے پر، طلبہ اور اہل خانہ مندرجہ ذیل سے متفق ہیں:

- صرف بورڈ سے منظور شدہ پلیٹ فارمز اور ہم وقت آموزشی ٹولز کا استعمال کریں؛
- YRDSB کی ٹیکنالوجی کے مناسب استعمال کی پالیسی طریق کار کی پیروی کریں؛
- باقاعدہ کلاس روم کے لئے برتاؤ اور رویے کے تمام اصولوں کی پاسداری، کیونکہ وہ ورجونل کلاس روم پر بھی لاگو ہوتی ہے، بشمول لیکن بلا تحدید:
 - ان طریقوں میں حصہ لینا جو سب پر مشتمل، قابل غور اور قابل احترام ہوں؛
 - امتیازی سلوک یا نفرت کے واقعات میں ملوث نہ ہونا بشمول لیکن بلا تحدید علاقائی نسل پرستی مخالف، اہلیت پسندی، ایشائی نسل پرستی مخالف، سیاہ فام نسل پرستی مخالف، یہود دشمنی، طبقہ پسندی، ہومو فوبیا، اسلامو فوبیا، جنس پرستی، ٹرانسفوبیا؛ اور
 - کسی استاد یا قابل اعتماد اسکولی عملہ کے ممبر کو کسی بھی نسل پرست، نفرت انگیز، امتیازی یا نامناسب رویے کی فوری طور پر اطلاع دینا۔
- ہم وقت سیشنز میں شرکت صرف طلبہ تک ہی محدود ہے۔ والدین/سرپرست آموزشی پلیٹ فارمز یا ڈیجیٹل ٹولز میں لاگ ان یا ان تک رسائی حاصل کرنے میں اپنے بچے کی اعانت اور مدد کرسکتے ہیں۔ تمام معاملات میں، والدین کو آموزش میں طالب علم کی آزادی کی اہمیت کی یاد دلانی جاتی ہے۔
- والدین/سرپرست اور طلبہ یہ نہیں کریں گے:
 - ریکارڈنگ کے اندرونی یا بیرونی آلات استعمال کرگوگل میٹ یا زوم سیشن کے کسی بھی پہلو (تصاویر، آوازیں یا ویڈیو) کو ریکارڈ کرنا؛
 - کسی بھی طرح سے ریکارڈ شدہ، کاپی شدہ یا تقسیم شدہ مواد کو تقسیم/پوسٹ کرنا، بشمول تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر؛
 - اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تصاویر یا اسکرین شائٹس لینا جب تک کہ استاد ایسا کرنے کی واضح اجازت یا ہدایت نہ دیں۔ (مثلاً، وہ تدریسی مقاصد کے لئے استعمال کردہ وہ ویزونل جسے بعد میں دوبارہ پوسٹ نہیں کیا جائے گا)؛
 - کسی بھی طرح سے مواد میں ترمیم یا جوڑ توڑ کرنا؛ اور
 - اساتذہ کے ذریعہ فراہم کردہ گوگل میٹ اور زوم سیشن کے لنکس شیئر/تقسیم کرنا۔

ان توقعات پر عمل نہ کرنے میں طالب علم کی تادیب شامل ہوسکتی جس میں معطلی یا اخراج شامل ہوسکتا ہے۔

آن لائن ہم وقت آموزشی سیشنز کی ریکارڈنگ

براہ کرم ذیل میں دی گئی معلومات کو غور سے پڑھ کر یقینی بنائیں کہ آپ آن لائن ہم وقت تدریس میں شرکت کے پیرامیٹرز کو سمجھتے ہیں۔

1. ایک استاد آن لائن ہم وقت آموزشی سیشنز کے تمام یا بعض حصے کو ریکارڈ کرسکتے ہیں:

- a. طالب علم کے آموزشی مقاصد
- b. طالب علم کی تشخیص کے مقاصد
- c. مستقبل میں تدریسی استعمال

ہم وقت آموزشی ویڈیو ریکارڈنگ کے مقصد، رسائی، اسٹوریج اور برقرار رکھنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم [لنک کردہ FAQs یہاں دیکھیں](#)۔

2. ریئل ٹائم رسائی حاصل کر نوٹ کرنے والے کی غیر موجودگی میں، جہاں قابل اطلاق ہوتا ہے، کلوز کیپشن ٹرانسکرپٹ نوٹ کی کاپی شناخت شدہ ضروریات کی بنا پر انفرادی طلبہ کے ساتھ شیئر کی جاسکتی ہیں۔ ان مثالوں میں:
 - سبق یا کلاس میں گفتگو کے دوران کہی گئی بات کا تحریری ریکارڈ موجود ہو؛
 - ٹرانسکرپٹ کو آموزشی پلیٹ فارم پر پوسٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اس کا مطالبہ کرنے والے طالب علم (طلبہ) کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؛ اور
 - یہ نوٹ طالب علم کے ذریعہ استعمال کیے جاتے ہیں جن کی ضرورت انہیں ان کے IEP کے مطابق ہوتی ہے اور وہ صرف تصور کے حصول اور ایگزیکٹو فنکشننگ کے مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، تو براہ کرم اپنے اسکول پرنسپل سے رابطہ کریں۔

شکریہ